



## الْقَمَر

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قیامت قریب آپہنچی اور چاند شق ہو گیا۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٣﴾

اور انکو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾

اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈراوے انکو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ ﴿٥﴾

تو تم بھی انکی کچھ پروا نہ کرو۔ جس دن بلا نے والا  
انکو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى  
شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴿٦﴾

فوراً آنکھیں نیچی کئے ہوئے قبروں سے نکل  
پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ  
الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾

اس بلا نے والے کی طرف دوڑتے جاتے  
ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت  
ہے۔

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ  
هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی  
تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا  
کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا  
عِبْدَنَا وَقَالُوا لِجُنُودِنَا وَازْدَجَرًا ﴿٩﴾

تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں  
انکے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ  
لے لے۔

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾

پس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے  
دہانے کھول دیئے۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ  
مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

اور زمین میں چشمے جاری کر دیئے تو پانی ایک

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ

عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

کام کے لئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَوَسْرٍ ﴿١٣﴾

اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میٹوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لئے کیا گیا جسکو کافر مانتے نہ تھے۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٦﴾

سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٨﴾

قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی۔

وہ لوگوں کو اس طرح اکھیرے ڈالتی تھی گویا  
اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ  
مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا  
ہے۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ  
مِنْ مُدَّاكِرٍ ﴿٢٢﴾

قوم ثمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے  
ہم اسکی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور  
دیوانگی میں پڑ گئے۔

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا  
إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی  
ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا  
ہے۔

أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ  
هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

انکو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی  
مارنے والا ہے۔

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ  
الْأَشِرِّ ﴿٢٦﴾

اے صالح ہم انکی آزمائش کے لئے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم انکو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ  
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

اور انکو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا۔

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٣٠﴾

ہم نے ان پر عذاب کے لئے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي إِذْ يَأْتِيهِمْ بِالذِّكْرِ ﴿٣٣﴾

تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے انکو پچھلی رات کے وقت بچا لیا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ  
نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحْرِ ۝۲۴

اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ  
شَكَرَ ۝۲۵

اور لوط نے انکو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا  
بِالنَّذْرِ ۝۲۶

اور ان سے انکے مہمانوں کو لے لینا چاہا۔ تو ہم نے انکی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا  
أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ۝۲۷

اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آنازل ہوا۔

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ  
مُّسْتَقَرٌّ ۝۲۸

تو اب میرے عذاب اور ڈراؤں کے مزے چکھو۔

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ۝۲۹

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

مِنْ مَدَّ كِرِيْعًا

ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ

اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انکو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ  
بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ

اے اہل عرب کیا تمہارے کافران لوگوں سے بہتر میں یا تمہارے لئے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھکارا لکھ دیا گیا ہے؟

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ  
أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

اصل میں انکے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہو گی۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٤٧﴾

بیشک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا  
میں۔

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ  
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں  
گے کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ  
بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات  
ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ  
مُدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں  
تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

اور جو کچھ انہوں نے کیا انکے اعمال ناموں میں  
درج ہے۔

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴿٥٣﴾

یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾

جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں  
گے۔

یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے  
والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

